



سوال

(226) بینک میں ملازمت کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

راولپنڈی سے عرفان علی کہتے ہیں۔ کہ آپ کے فتویٰ کے مطابق بینک میں ملازمت کرنا منج ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس ملازمت کرتا ہے اگر مالک اپنے ملازم کو بینک کے کسی کام کے لئے بھیجتا ہے تو ملازم پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوگا۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دور حاضر میں دو ایسے فتنے ہیں کہ ایک باغیرت مسلمان اجتنباب کی کوشش کے باوجود اضطراری حالات میں لوٹ ہو جاتا ہے۔ ایک فتنہ تصویر کشی اور دوسرا سود خوری اسلامی حکومت میں سودی کاروبار نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ ایک فوجداری جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے اسلامی مملکت میں بستے والے قبائل عرب کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے۔ تو ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو باہن الفاظ واضح فرمایا: "کہ اس کا ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔" اس لئے ایک مسلمان کو اختیاری حالات میں اس سے گریز کرنا چاہیے اگر کبھی بھجار کسی مجبوری کے پیش نظر بینک میں جانا پڑے تو امید ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ (واللہ اعلم)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 261